

ابوبكر اور عمر رضي الله تعالى عنهما، افضل
اور زياده عالم هين يا كه على رضى الله تعالى عنه
من الأفضل والأعلم أبو بكر وعمر أم علي؟
[أردو - اردو - urdu]

الشيخ محمد صالح المنجد

ترجمه: اسلام سوال وجواب ويب سائٹ

تنسيق: اسلام ہاؤس ويب سائٹ

ترجمة: موقع الإسلام سؤال وجواب

تنسيق: موقع islamhouse

2013 - 1434

IslamHouse.com



ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، افضل اور زیادہ عالم ہیں یا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اگر ہم یہ چاہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف میلان نہ رکھیں حالانکہ وہ صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ اور افضل مرتبہ رکھتے ہیں ، حدیث صرف ان کے مجاہد ہونے کے ناطے سے ہی تعریف نہیں کرتی بلکہ وہ اپنے علم اور فہم کے اعتبار سے ایک مثالی شخص تھے ۔ یہاں تک کہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیشہ وہ مسائل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے جو ان پر مشکل ہوتے اور ان کے جواب کا علم نہ ہوتا تو اس طرح وہ دونوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرتبہ میں اعلیٰ و افضل کیسے ہوئے ؟

الحمد لله

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں سے زیادہ عقل مند اور ذہین وقتین تھے ، اور بہادری و شجاعت اور اقدام میں شہرت اور ید طولیٰ رکھتے تھے ، اور بچوں میں سب سے پہلے وہی تھے جو اسلام لائے اور پھر ہجرت سے پہلے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے نکلے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے مکہ میں چھوڑا اور وہ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر شب بسر کر رہے ہیں ۔

اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منقاب و فضائل میں یہ بھی ثابت ہے کہ: سهل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خیبر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

میں اس شخص کو جھنڈا دونگا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا ، تو صحابہ کرام یہ سوچنے ہوئے اٹھے کہ یہ جھنڈا کسے دیا جائے گا ، اور دوسرے دن سب آئے تو ہر ایک کی خواہش رکھتا تھا کہ جھنڈا اسے دیا جائے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کہاں ہے ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے ۔



نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلانے کا حکم دیا وہ آئے تونبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں تھوک لگایا تو وہ اسی وقت ایسے ٹھیک ہوئیں کہ انہیں کچھ تھا ہیں نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر (۲۹۴۲) صحیح مسلم حدیث نمبر (۲۴۰۶)۔

جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب ہیں اسی طرح دوسرے صحابہ کرام کے بھی فضائل و مناقب ہیں ، ذیل میں ہم چند ایک صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض فضائل و مناقب کا ذکر کریں گے

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا:

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور اپنے پاس جو کچھ ہے کا اختیار دیا تو اس نے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اختیار کر لیا۔

یہ بات سن کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے ، میں نے دل میں کہا یہ بزرگ کیوں رو رہا ہے ، بات تو صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ تھا اسے اختیار کر لیا۔

تو وہ بندہ اور عبد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے۔

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اے ابوبکر نہ روئیں ، بلاشبہ صحبت اور اپنے مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابوبکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہیں ، اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل (جگری دوست) بناتا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا ، لیکن اسلامی اخوت اور مودت ہے ، مسجد میں جتنے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں انہیں بند کر دیا جائے اور ابوبکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر (۴۶۶) صحیح مسلم حدیث نمبر (۲۳۸۲)۔

ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے میں فضیلت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

{ اگر تم ان (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد سے وقت بھی کی تھی جب انہیں کافروں نے (دیس سے) نکال دیا تھا ، دومیں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے ، تو اللہ



تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان پر سکون نازل فرمایا اور ان کی ان لشکروں سے مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اس نے کافروں کے کلمہ کو پست کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند و عزیز ہے اور اللہ تعالیٰ ہی غالب حکمت والا ہے { التوبۃ (۴۰) -

یہ بھی ثابت ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات السلاسل میں بھیجا وہ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا:

لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے، میں نے کہا کہ مردوں میں سے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے والد (ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے، میں نے کہا کہ اس کے بعد پھر کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر بن الخطاب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور بھی کئی آدمی گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر (۳۶۶۲) صحیح مسلم حدیث نمبر (۲۳۸۴) -

ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مناقب میں سے یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام مرض الموت میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے پر مامور کیا اور جس نے اس پر اعتراض کیا اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(ابوبکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں) صحیح بخاری حدیث نمبر (۶۸۳) صحیح مسلم حدیث نمبر (۴۱۸) -

ان کے فضائل میں یہ بھی ثابت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم احد پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اے احد ثابت رہ اور سکون اختیار کر اس لیے کہ تجھ پر نبی اور صدیق اور دوشہیدوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر (۳۶۷۵) -

اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بہت سے فضائل و مناقب ثابت ہیں جن میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے:

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ مجھ پر لوگ پیش کیے جا رہے ہیں اور ان پر قمیصیں ہیں کسی کی قمیص اس کے سینہ تک



اور کسی کی اس سے نیچے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیے گئے تو وہ اپنی قمیص کھینچ رہے تھے ، تو صحابہ کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تاویل کی ہے ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کی تاویل دین کی ہے - صحیح بخاری حدیث نمبر (۲۳) صحیح مسلم حدیث نمبر (۲۳۹۰) -

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

(میں سویا ہوا تھا تو مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا میں نے یہ دودھ اتنا پیا کہ اس کی تری مجھے اپنے ناخنوں سے نکلتی نظر آنے لگی پھر میں نے اپنا یہ بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو دے دیا ، صحابہ کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تاویل کیا فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم (صحیح بخاری حدیث نمبر (۸۲) صحیح مسلم حدیث نمبر (۲۳۹۱) -

اور ان کے فضائل و مناقب میں یہ بھی ثابت ہے کہ:

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ:

(تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن پر الہام ہوتا اور ان کی زبان پرسج جاری ہوتا تھا اور اگر ان لوگوں میں سے کوئی میری امت میں ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں) صحیح مسلم حدیث نمبر (۲۳۹۸) -

اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے فضائل اور مناقب پر دلائل موجود ہیں ، مگر یہ کہ صحابہ کی ایک دوسرے پر فضیلت عقلا اور شرعا ثابت ہے اس میں کسی خواہش اور چاہت کا کوئی دخل نہیں بلکہ اس کا ثبوت شرع ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

{ آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے ، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پاکی ہے وہ ہر اس چیز سے بلند تر ہے جو وہ شرک کرتے ہیں { القصص (۶۸) -

اب ہم ان شرعی دلائل کی طرف رجوع کرتے ہیں جن میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مراتب اور منازل بیان ہوئے ہیں:

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے درمیان امتیاز کیا کرتے تھے تو ہم ابوبکر کو سب سے افضل اور ان کے بعد عمر بن الخطاب پھر



عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو - صحیح بخاری حدیث نمبر (۳۶۵۵) -

(اور ایک روایت میں ہے کہ:

ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو بھی قرار نہیں دیتے تھے ان کے بعد عمر اور ان کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم پھر ہم باقی صحابہ رسول کو اسی طرح رہنے دیتے اور ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے - صحیح بخاری حدیث نمبر (۳۶۹۷) -

یہ وہ سب صحابہ کی شہادت ہے جسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کر رہے ہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ان کے بعد عمر بن خطاب اور ان کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم افضل ہیں

اب ہم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ہی گواہی کی طرف آتے ہیں کہ سب سے افضل کون تھا:

محمد بن حنفیہ جو کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھی ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابوبکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) میں کہا پھر کون؟ تو انہوں نے جواب میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، میں نے اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نہ کہہ دیں، میں نے کہا پھر آپ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا میں تو مسلمانوں کا ایک عام سا آدمی ہوں - صحیح بخاری حدیث نمبر (۳۶۷۱) -

علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا: جو بھی میرے پاس لایا گیا اور اس نے مجھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دی تو میں اسے حدافتراء لگاؤں گا -

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ کوفہ کے منبر پر کہا کرتے تھے اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اور افضل ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ -



علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے روایت کرنے والوں کی تعداد اسی (۸۰) سے بھی متجاوز ہے اور امام بخاری وغیرہ نے بھی اسے روایت کیا ہے ، اور یہی وجہ ہے کہ پہلے دور کے سب کے سب شیعہ اس پر متفق تھے کہ سب سے افضل ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں ، جیسا کہ کئی ایک نے ذکر بھی کیا ہے منہاج السنۃ (۱ / ۳۰۸) ۔

ابوجحیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ منبر پر چڑھے اور اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درودوسلام کے بعد کہنے لگے : نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر اور افضل ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نمبر پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ، اور پھر یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پسند کرے بہتری اور خیر رکھتا ہے ۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی مسند (۸۳۹) میں روایت کیا ہے اور شیخ شعیب ارناؤوط نے اس کی سند کو قوی قرار دیا ہے ۔

یہ احادیث نبویہ اور آثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سب اہل سنت کے عقیدہ جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پر دلالت کرتے ہیں کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے صحابہ میں سب سے افضل ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اللہ تعالیٰ سب صحابہ پر اپنی رحمتیں برسائے ۔

رہی یہ بات کہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مسائل پوچھتے رہتے تھے اور انہیں علم نہیں تھا ، تو مطلقاً اس میں کوئی بھی اثر ثابت نہیں ، بلکہ اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے مسائل میں عالم کے علاوہ کسی اور کو حکم نہیں دیا ۔

اور اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجة الوداع سے پہلے سال ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنایا تھا ، تو اس مقام پر بھی امیر وہی بن سکتا ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ عالم دین ہو ، بلکہ اس کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض مسائل میں کچھ احادیث تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی تھیں ۔



اسماء بن حکم فزاری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا: میں ایک ایسا شخص ہوں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے مجھے جو نفع دینا چاہا دیا، اور جب صحابہ میں کوئی مجھے حدیث بیان کرتا تو میں اسے حلف کے بغیر تصدیق نہ کرتا جب وہ حلف اٹھاتا تو میں اسے کی تصدیق کرتا، اور بلاشبہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حدیث بیان کی اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بولا، انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جو شخص بھی کوئی گناہ کرنے کے بعد وضوء کر کے نماز پڑھتا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی:

{ اور وہ لوگ جنہوں نے فحش کام اور برائی کر لی یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی } آیت کے آخر تک پڑھا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر (۴۰۶) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ترمذی میں اسے حسن قرار دیا ہے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے دل اور زبان پر حق جاری کیا ہوا ہے) سنن ترمذی حدیث نمبر (۳۶۸۲) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح ترمذی (۲۹۰۸) صحیح کہا ہے۔

اور اوپر سطور میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارہ میں فرمایا:

(تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن پر الہام ہوتا اور ان کی زبان پرسچ جاری ہوتا تھا اور اگر ان لوگوں میں سے کوئی میری امت میں ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں)

تو حاصل یہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت جس پر جمع ہیں اور ان کا اعتقاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

کسی بھی معتبر مسلمان عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں یا پھر صرف اکیلے ابوبکر رضی



اللہ تعالیٰ عنہ سے پی افضل ہیں ، اور ان کو افضل کہنے پر علماء سنت کے اجماع کا دعویٰ کرنے والا سب سے جھوٹا اور اجہل الناس ہے ۔
 بلکہ کئی ایک علماء نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم رکھنے والے تھے ۔
 اسے نقل کرنے والوں میں امام منصور بن عبدالجبار سمعانی المروذی جو کہ سلف میں سے اصحاب شافعی میں شمار ہوتے ہیں نے اپنی کتاب " تقویۃ الادلۃ علی الامام " میں ذکر کیا ہے کہ:

علماء سنت کا اس پر اجماع ہے کہ بلاشبہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عالم تھے ، اور مجھے مشہور ائمہ میں سے کسی ایک کے بارہ میں بھی علم نہیں کہ انہوں اس میں کوئی جھگڑا یا اختلاف کیا ہو ، اور یہ بوبھی کیسے سکتا ہے اسے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ اور حکم دیا کرتے اور روکتے اور فیصلے کیا کرتے اور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے ۔

جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے نکلتے اور جب دونوں نے ہجرت کی ، اور جنگ حنین کے موقع پر اور اس کے علاوہ کی کئی ایک مواقع اس پر شاہد ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اور انہیں اس پر کچھ نہیں کہا اور جو کچھ وہ کہتے اس پر رضا کا اظہار کیا اور یہ مرتبہ کسی اور صحابی کو نہیں ملا ۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیروں میں صحابہ کرام میں سے اہل علم اور فقہ اور اصحاب الرائے شامل تھے ، اور ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مقدم کرتے تھے ، تو یہی دو ایسے صحابی تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سب صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے ان پر کلام میں مقدم ہوتے ۔

مثلاً جب بدر میں قیدیوں کا مسئلہ پیش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا تو سب سے پہلے بات کرنے والے ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی تھے ، اسی طرح اور بھی کئی ایک واقعات ہیں ۔

صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : (اگر قوم ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانے تو کامیاب اور رہنمائی حاصل کر لیں گے) ۔



اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے کہ وہ کتاب اللہ میں سے یہ فتویٰ دیا کرتے اگر اس میں سے نہ ملتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور اگر اس میں بھی نہ ملتا تو ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول سے فتویٰ دیا کرتے تھے اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے نہیں دیتے تھے۔

اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حیرالامہ اور اپنے دور میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فقیہ ہونے کے باوجود ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کو باقی سب صحابہ کے اقوال پر مقدم رکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے:

(اے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ اور انہیں تفسیر کا علم دے) دیکھیں
مجموع الفتاویٰ (۴ / ۳۹۸)۔

مزید تفصیل کے لیے دیکھیں:

الفصل فی الملل والنحل (۴ / ۲۱۲) بل ضللت (ص ۲۵۲) اور " الشیعة الامامية الاثنی عشریة (ص ۱۲۰)۔
واللہ تعالیٰ اعلم .